

## مہلک و متعدی امراض کے باعث فتح نکاح- ایک تحقیقی جائزہ

\*ڈاکٹر حافظ عبدالباسط خان

In Islamic law different ways have been prescribed to arrange separation between spouse and wife where it seems necessary. Dissolution on the basis of diseases is also a way out according to hanbali school of fiqh and imam Muhammad's opinion [from hanafi school of fiqh], if a spouse is suffering from a disease with which his wife can not live with him she can demand to dissolve the marriage. According to other three schools of fiqh, she can only demand in specific diseases. The author of this article has come to this result that lethal and contagious diseases must be enlisted in this matter.

اسلام نے عالمی نظام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کا پورا انتظام کیا ہے۔ لہذا وہ تمام ممکنہ صورتیں جو اس نظام کے مضبوط قیام کیلئے ضروری تھیں اسلام نے بھم پہنچائی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر نکاح کا میاب ہو بلکہ بیشرا وقات ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں نکاح کے بندہ ہن کا ٹوٹنا ہی فریقین کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مرد کے پاس اس بندہ ہن کو توڑنے کے لئے طلاق کا حق موجود ہے۔ اگر وہ اپنے دیے ہوئے مہر کو واپس لے کر طلاق دے تو غلخ کی گنجائش موجود ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی صورتیں ہیں جہاں خلع بھی کارگر نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہ شوہر جسمانی یا ذہنی امراض و عیوب میں بستلا ہے یا وہ منقوذ اخبار ہے یا متصدر و متعصت (متگدست یا نافع) کے معاملے میں تنگی کرنے والا ہے۔ فقهاء اسلام نے ان صورتوں میں عورت کی گلوخالصی کیلئے تنشیخ یا فتح نکاح کی صورت رکھی ہے۔ زیر نظر ضمنون میں مختلف امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح کے مباحث کو سمیتا گیا ہے۔

امراض و عیوب کے باعث فتح نکاح کے معاملے میں ظاہریہ کا موقف جھبھو سے یکسر مختلف ہے۔ کوئی بھی عیوب خواہ مرد میں ہو یا عورت میں، تعلقات زن و شوئی قائم ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے یا بعد میں، فتح نکاح کا موجب نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں:

”انه لا يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة وأما الرواية عن عمر و على

فمنقطعة وعن ابن عباس من طريق لا خير فيه ثم لوصح لكان لا حجة فيه لانه

لا حجة في قول أحد دون رسول الله عليه السلام مع اختلاف تلك الروايات على

انقطاعها“ (۱)

\* استاذ پروفیسر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، جامعہ بنجاح، لاہور

”فتح نکاح کے معاملے میں صحابہ کرامؓ کے آثار میں سے کوئی اثر بھی درجہ صحت کو نہیں پہنچتا جہاں تک حضرت عمرؓ و حضرت علیؓ کے اقوال اور فیصلوں کا تعلق ہے تو ان پر مشتمل روایات منقطع ہیں۔ ابن عباس کا اثر ابی سند کے ساتھ آیا ہے جس میں کوئی خیر نہیں۔ پھر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر ان آثار میں سے کوئی اثر درست بھی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول جھٹ نہیں۔ اس پر مزید یہ کہ یہ آثار منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں (یعنی بعض میں بعض عیوب کو موجب فتح بتایا گیا ہے تو دوسرے آثار میں کچھ دیگر امراض کو موجب فتح شمار کیا گیا ہے۔

ابن حزم نے اپنے مزاج و مذاق کے موافق ائمہ ارجاع اور دیگر مجتہدین پر کڑی تقید کی ہے جو امراض کو موجب فتح سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم کی تقید درست نہیں اس لئے کہ جب محدثین چند ضعیف روایات کو جو مخدوم امفوہ م ہوں حسن الغیرہ کا درجہ دے کر قبول کر لیتے ہیں تو کیا آثار صحابہؓ ایسی صورت میں جھٹ نہ ہوں گے۔ باقی آثار صحابہؓ کو سرے سے جھٹ ہی نہ سمجھنا تو یہ ایک اصولی مسئلہ ہے جس پر مستقل مباحث اصول فقه کے ذخیرے میں موجود ہیں۔

جمهور کے نزدیک امراض و عیوب موجب فتح ہیں۔

وہ کون سے عیوب ہیں جن کے باعث نکاح فتح ہو جائے گا، تو مرد کے عضو تناسل کا کٹا ہونا (الجب) اور اس کا جماع پر قادر نہ ہونا (عنی نامر دی) (العنة)، ان دو اسباب پر تو ائمہ ارجاعہ کا اتفاق ہے۔ (۲)

باقی امراض و عیوب میں قدرے تفصیل ہے جو مندرجہ ذیل ہے:

امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے ہاں عضو تناسل کا کٹا ہونا (الجب)، نامر ہونا (العنة) اور خصیتین نکال دینا (الخماء) صرف یہی تین امراض جو خالص تارما نہ امراض ہیں، موجب فتح ہیں۔ نیز یہ بھی اس اس وقت ہے جب عقد نکاح سے پہلے یہ امراض مرد میں موجود تھے اور عورت کو بوقت عقد علم نہیں تھا یا نکاح کے بعد مرد کو لاثت ہوئے اور وہ ایک مرتبہ بھی عورت سے جماع نہیں کر سکا جب کہ امام محمدؓ کے ہاں ان تین عیوب کے ساتھ ساتھ جنون، برص اور جرام بھی موجب فتح ہیں۔ (۳)

حنفیہ کے ہاں امراض کے باعث فتح نکاح کا اختیار صرف عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت میں امراض و عیوب کی موجودگی سے مرد کو حق فتح ان کے ہاں حاصل نہیں کیونکہ مرد کے پاس گلوغلachi کیلئے طلاق کا راستہ موجود ہے۔ ائمہ ثالثہ کے ہاں زنانہ امراض و عیوب (ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے) کے باعث مرد کو

بھی فتح کا حق حاصل ہے۔ (۲) یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد کو طلاق کا حق ہونے کے باوجود فتح کا اختیار دینے میں کیا حکمت ہے سواس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کی صورت میں مرد مہر واپس نہیں لے سکتا جب کفتح کی صورت میں ائمہ شیعہ کے ہاں ادا کیا ہوا مہر بھی عورت کے ولی سے مردا پس لے سکتا ہے۔

امام شافعی کے ہاں سات عیوب موجب فتح ہیں۔ جب، عنة، جنون، جزام، برص، رق، (اندام نہانی پر گوشت کا ایسا ٹکڑا آجائے جس کے باعث جماع نہ ہو سکے)، قرن (ایک بیماری جس میں عورت کی شرمگاہ میں ہڈی نکل آتی ہے، اس سے ہمستری میں دشواری ہوتی ہے)

پہلے دو عیوب مردوں کے ساتھ اور آخری دو عیوب عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جب کہ درمیانی تین مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں۔ (۵)

امام مالک کے ہاں تیرہ عیوب موجب فتح ہیں۔ چار مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں۔

جنون، جزام، برص اور غدیطہ (بوقت جماع مرد یا عورت کے پاخانہ یا پیشاب نکل آنے کی بیماری) چار مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ خصاء جب، العنة اور الاعتراض (کسی مرض یا کسی اور سبب کے باعث اتصال جنسی پر قدرت نہ ہونا)۔

پانچ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ رق، قرن، بخر (شرمگاہ کی بدبو) عضل (شرمگاہ میں غدوہ کا ہونا جو اتصال جنسی سے یا حصول لذت جماع سے مانع ہو) اور افضاء (شرمگاہ کا پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے مل جانا) (۶)

اس تفصیل سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ ائمہ شیعہ مذکورہ کے ہاں ان عیوب کے بارے میں جو موجب فتح ہیں، حصر و تغین کا نظریہ پایا جاتا ہے یعنی صرف یہی عیوب ہیں جو موجب فتح ہیں۔

امام احمد بن حنبل کے ہاں آٹھ عیوب موجب فتح ہیں جنون، جزام اور برص مشترک ہیں۔ جب اور عننت مرد کے ساتھ مخصوص جب کہ قرن، رق اور افسق (بمعنی افضاء) عورت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (۷) البته ان کے ہاں فتح نکاح انہی عیوب پر منحصر نہیں ہے بلکہ جنسی عیوب کے بیشمول ایسے عیوب جو نفرت کا باعث ہوں اور ان کی نجاست متعدی ہو جیسے شرمگاہ میں موجود بہنے والے پھوڑے، وہ بھی موجب فتح ہوں گے۔

ایک اور رائے جسے ابن قیم نے امام زہری، قاضی شریح اور امام ابوثور کی رائے قرار دیا ہے اور خود بھی اسے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عیوب جو قابل نفرت ہو، چاہے دائیٰ ہو یا وقوتی۔ وہ موجب فتح ہو گا جیسے انہر س

(گوزگا پن) اعظم (بانجھ پن) اور ہاتھ یا پاؤں کا نہ ہونا۔ اس رائے کے حاملین کی دلیل یہ ہے کہ عقد نکاح، فریقین کے عیوب سے پاک ہونے کی شرط پر ہی قائم ہوا تھا (یعنی یہ شرط بغیر تصریح کے بھی ملاحظہ ہوتی ہی ہے) لہذا ایسے عیوب کے پائے جانے پر اختیار فتح ہوگا۔ (۸)

ابن قیم کی رائے راجح معلوم نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کے تماقے ہوئے عیوب نکاح کے مقاصد کی تتمیل میں مخل نہیں۔ اس لئے دیگر حنابلہ کی رائے ہی راجح معلوم ہوتی ہے۔

اس مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تغیرات زمانہ و احوال کی وجہ سے پیدا ہونے والے موزی متعدی امراض کی وجہ سے فتح نکاح کا راستہ صرف خلبی مکتبہ نقہ میں موجود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلبی کتب نقہ میں جس اسلوب کی متعلقہ عبارات موجود ہیں یعنیہ خلبی کتب نقہ میں اسی اسلوب کی عبارات امام محمدؐ کے مؤقف پر موجود ہیں، مثلاً قاضی ابوالخطاب خلبی کا قول ہے:

”ويتخرج على ذلك من به الباسور، (۹) والناظور (۱۰) والقروح السيالية في

الفرح، لانها تشير نفرة، وتتعدي نجاستها“ (۱۱)

”انہی امراض مذکورہ پر قیاس کرتے ہوئے بواسیر، پرانے جان لیوا چھوڑوں اور شرمگاہ کے آس پاس بہنے والے چھوڑوں کا حکم معلوم ہوتا ہے (کروہ موجب فتح نکاح ہیں) اس لئے کہ جسم میں ان کی موجودگی سے نفرت پھیلتی ہے اور نجاست بھی دوسرے فریق تک متعدی ہو جاتی ہے۔

جبکہ امام محمدؐ کا مسلک بیان کرتے ہوئے زیلیٰ لکھتے ہیں۔

”وقال محمد: ترد المرءة اذا كان بالرجل عيب فاحش بحيث لا تطيق المقام معه لانها تعذر عليها الوصول الى حقها لمعنى فيه فكان كالجج والعنة“ (۱۲)  
امام محمد کہتے ہیں کہ اگر مرد میں کوئی ایسا کھلا ہوا عیب ہو کہ اس کے باوجود اس کے ساتھ رہنا نہ جاسکتا ہو تو عورت نکاح رد کر سکتی ہے اس لئے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے لئے اپنا حق حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح اب یہ مجبوب اور نامرد ہونے کے حکم میں ہو گا۔ کاسانی لکھتے ہیں:

”خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح“ (۱۳)

امام محمد کے نزدیک نکاح لازم ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ ایسے عیوب سے خالی ہو جن کے پائے جاتے ہوئے وہ ضرر کے بغیر مرد کے ساتھ نہ رکھے جنون، ج Zam اور برص، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے فتح نکاح کر دیا جائے گا۔

مندرجہ بالا عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح حنبلی مکتبہ فقہ میں امراض کے بارے میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اسی طرح حنفی مکتبہ فقہ میں بھی امام محمد کی رائے لیتے ہوئے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے۔

### دور حاضر کے خطرناک مہلک امراض

#### HIV اور ایڈز:

HIV مخفف ہے کہ ایسا وائرس Human immuno Defeney virus کا۔ اس کا مطلب ہے جو انسان کے دفاعی نظام کو تباہ کر دے اور انسان نفیکشن اور امراض کے خلاف دفاع نہ کر سکے۔ HIV واائرس مخصوص طریقوں سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو لوگ جاتا ہے اور اس کے حفاظتی اور دفاعی نظام کو بے کار کر کے رکھ دیتا ہے۔ HIV کا واائرس ہی ایڈز پھیلانے کا باعث ہوتا ہے۔

ایڈز کا معنی ہے ایسا مرض لگانا جس میں جسمانی علامات ایسی ہوں کہ انسان کا دفاعی نظام امراض اور چھوٹ کے خلاف نہ لڑ سکے۔ جب کوئی انسان AIDS سے متاثر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے ایڈز ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈز کو مرض کے بجائے علامات مرض قرار دیا جاتا ہے۔ لوگ ایڈز سے نہیں مرتے بلکہ واائرس ان کو اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ وہ بیماری کے خلاف مدافعت نہیں کر سکتے۔ ایڈز کے پھیلنے میں جہاں دیگر عوامل از قسم تبادلہ خون اور متاثرہ سرخنج کا استعمال غیرہ کار فرماتے ہیں، وہاں ناجائز جنسی تعلقات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان ناجائز جنسی تعلقات میں زنا، دخول مقدعاً اور اول سیکس شامل ہیں۔ یہ مرض وراثت میں منتقل ہو کر ایک دوسرے کو لوگ جاتا ہے جس کی وجہ سے جس سے بھی مرضیں تعلق جوڑے گا وہ اس مرض کا شکار ہو جائے گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ یہ مرض کبھی ماں سے بچے میں منتقل ہو جاتا ہے جمل کے دوران یا ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد۔ اس مرض کی انتہا موت پر ہوتی ہے۔

#### آتشک:

یہ مرض انتہائی خطرناک ہے جو جنسی بے قاعدگیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض کے چند مرحلے ہوتے ہیں۔ یہ مرض دوسرے مرحلے میں جسم میں پھیل جاتا ہے اور جلد پر پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس میں

پیپ پیدا ہو کر زخموں کی نوبت آ جاتی ہے بعد ازاں منتقل ہو کر جگر تک پہنچ جاتا ہے جس سے جسم میں سو جن اور سلطان کی بھی شکایت ہو جاتی ہے رعشہ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا اثر پھیپھڑوں اور دل تک پہنچ جاتا ہے اور آخر کار مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

آتشک کو بادفرنگ یا پنجابی گرمی بھی کہتے ہیں جو متعدی مرض ہے۔ زوجین میں سے جو بھی اس مرض میں مبتلا ہو تو مباشرت کی وجہ سے یہزہ دسرے کو سرائیت کر جاتا ہے جس کے بعد اس کی اور اس کے گھرانے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اولاد بھی لوئی لنگڑی پیدا ہوتی ہے۔

### سوzaک:

سوzaک ایک متعدی مرض ہے۔ اس مرض سے اگرچہ موت واقع نہیں ہوتی لیکن اعضائے جنسی میں بڑی خرابی آتی ہے۔ یہ مرض بھی حرام جگہ شہوت پوری کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

### :PID

یہ مخفف ہے PELVIC INFLAMMORY DISEASE کا جس کا معنی ہے پیٹروکی سوزش کا مرض۔ اکثر خواتین جو اس مرض کا شکار ہوتی ہیں وہ اس سے بے خبر رہتی ہیں کیونکہ اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ اس مرض میں خواتین، بخار، متی، قے، سردی، درد معدہ، جنسی تعلقات کے دوران درد اور ماہواری کے دوران شدید درد یا پیشہ کے دوران درد میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ یہ مرض تب لاحق ہوتا ہے جب کوئی جنسی انفیکشن اندام نہانی سے قاذف نالیوں، (Fallopian Tubes) رحم یا بیضہ دانیوں میں سرائیت کر جاتا ہے۔ قاذف نالیاں زخمی ہو جاتی ہیں چنانچہ جب عورت حاملہ ہونے کے لئے تیار ہوتی ہے بار آور بیضہ رحم کی بجائے قاذف نالیوں میں نہ پاناشروع ہو جاتا ہے اس سے جنین کی نشوونما متاثر ہوتی ہے اور حاملہ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے جس کی بناء پر آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔

### شنکرائیڈ (CHANKROID)

یہ مرض سوzaک اور آتشک سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ عام آدمی کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتیں اور اگر کوئی اس کا شکار ہو بھی جاتا ہے تو اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا حملہ آہستہ اور ہلکا ہوتا ہے لیکن یہ لگاتار اندر بڑھتا رہتا ہے اور اعضائے توالد و تناسل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بیماری خاص کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہم جنسی کرنے والوں کو ہی لگتی ہے۔ یہ جراثیم اندام نہانی کی جلد میں

داخل ہو کر چھوٹے چھوٹے پیپ سے بھرے ہوئے ایک یا زیادہ ملائم چھالے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چھالے تیزی سے پھوٹتے رہتے ہیں اور تکلیف دہ پھوڑوں کی شکل میں زیریں حصے اور پوشیدہ اعضاء پر پھیل جاتے ہیں۔

## ۶۔ ایل جی وی (LGV)

لیفروگرینولوماویریم (Lymphro Granuloma Venereum) کا نامنف ہے۔ مباشرت کے ذریعے جس دن مریض اس کے جراشیم قبول کرتا ہے اس کے تقریباً تین ہفتے بعد عضو تناسل پر چھالے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دو ہفتوں بعد رانوں کے جوڑ کے پاس اندٹے کے برابر چھوڑا ظاہر ہوتا ہے اور یہیں سے مرض کی تکلیف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جلد ہی بیماری پھیل کر مقعد کو گھیر لیتی ہے اور مقعد کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک اور تکلیف یہ ہوتی ہے کہ عضو تناسل اور مقعد کے درمیان کی جگہ پر درجنوں چھوٹے چھوٹے چھید بن جاتے ہیں جن سے ہر وقت پیپ رستی رہتی ہے۔ اس بیماری کا بھی تک کوئی خاص علاج ایجاد نہیں ہوا۔

### کینسر یا سرطان:

یہ نہایت ہی مہلک بیماری ہے۔ صحیح تشخیص کے بعد عام طور پر مریض علاج نہ ہونے کی صورت میں سال دو سال سے زیادہ نہیں جیا کرتا۔ کینسر میں جسم کے کسی حصے کے خلیات بے قابو ہو کر بڑھنے لگتے ہیں، جن کے نتیجے میں ایک رسولی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ کچھ عرصہ بڑھنے کے بعد یہ رسولی درمیان میں سے گلنگتی ہے اور ایک زخم ظاہر ہو جاتا ہے، اس زخم کے کنارے موٹے ہوتے ہیں، سخت درد کرتے ہیں ذرا سا چھیڑنے سے خون نکلتا ہے۔ کینسر والی بگھوں کے چاروں طرف لمف گلینڈ بڑھ جاتے ہیں اور سخت ہوتے جاتے ہیں اور کچھ عرصہ بعد وہاں بھی کینسر کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کینسر کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا نجع پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کینسر کے خلیات اکھڑ کر خون اور لمف کی نالیوں کے ذریعے جس جگہ بھی پہنچتے ہیں ایک نیا کینسر شروع ہو جاتا ہے۔ کینسر تقریباً جسم کے ہر حصے میں ہوتا دیکھا گیا ہے مثلاً جلد کا کینسر، چھاتی کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، معدے کا کینسر، بڑی آنت کا کینسر، جگر کا کینسر، بچہ دانی کا کینسر اور خون کا کینسر جسے لیکو کیا بھی کہتے ہیں۔ پان کثرت سے کھانے والوں کو مسوڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے جس کی وجہ چونے کی خاش ہوتی ہے۔ سگریٹ کثرت سے پینے والوں کو پھیپھڑوں کا کینسر اور شراب کثرت سے پینے والوں کو معدے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخرب شے لگا تاکہ کسی خاص حصہ جسم

پر اپنا شروع اُتی ہے تو اس مخصوص حصہ جسم میں کینسر ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ کلامیدیا، اعضائے تناسل کے پھوٹے اور دانے (genital warts) اور پیٹاٹس (B) بھی مہلک امراض کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان میں صرف ایڈز اور HIV ایسے دو امراض ہیں جو وائرس سے پیدا ہوتے ہیں جبکہ باقی پوشیدہ امراض جراشیم سے پیدا ہوتے ہیں۔ (۱۳)

### ایڈز اور دیگر مہلک و متعدی امراض کی وجہ سے فتح نکاح:

جہاں تک ایڈز کا تعلق ہے تو وہ برس اور جذام سے زیادہ قابل نفرت بھی ہے اور متعدی بھی۔ لہذا امام محمد اور ائمہ شیعہ کے مسلک کے مطابق یہ موجب فتح ہو گا۔ نیز یہ کہ چونکہ یہ آگئی عام ہے کہ ایڈز کے جراشیم جماعت کے ذریعے مرد سے عورت میں منتقل ہوتے ہیں، لہذا الاما جمال عورت جماعت سے گریز کرے گی اور چونکہ اس کا گریز کرنا شرعاً درست ہے، لہذا امر داس کے حق میں عنین (نامر) ہی شمار ہو گا۔

اس تفصیل کے مطابق ایڈز ائمہ حنفیہ میں سے امام ابو حنفیہ اور امام ابو یوسف کے مسلک کے مطابق بھی موجب فتح ہو گا۔

اجتمائی اجتہاد کے معاصر اداروں نے ایڈز میں بتا شخص کی بیوی کو فتح کا اختیار ہے۔

جمع الفقهاء الاسلامی جدہ کے تحت چھٹی بین الاقوامی فقہی طبی کانفرنس کی چھٹی اور ساتویں قرارداد درج

ذیل ہے:

خامساً: حق التسلیم من الزوجین فی طلب الفرقة من الزوج المصاب

بعدوى الايدز:

”ترى الندوة ان لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدهوى

”الايدز“ باعتبار ان الايدز مرض مغل! تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال

الجنسي.“.

سادساً: حق المعاشرة الزوجية:

”اذا كان أحد الزوجين مصاباً بالايدز، فإن لغير المصاب منها ان يمنع عن

المباشرة الجنسية، لما سبق ذكره من ان الاتصال الجنسي هو الطريق

الرئيسي لنقل العدواى“ (۱۵)

یعنی جب زوجین میں سے کوئی ایک ایڈز کے مرض میں بتا ہو تو دوسرے فریق کو حق

فرقت بھی حاصل ہے نیز (فرقت کا حق استعمال نہ کرنے کی صورت میں) اسے دوسرے فریق کو جنسی مبادرت سے روکنے کا اختیار بھی ہے اس لئے کہ مہلک جان لیوا متعددی مرض ہے۔

اسی طرح اسلامک فقداً کلیدی اندیانے آٹھویں فقہی سیمینار میں یہ فیصلہ کیا کہ ایڈز میں بنتا شخص کی بیوی کو فتح کا حق حاصل ہے خواہ عورت کو نکاح سے پہلے س مرض کا علم بھی ہو۔ (۱۶) البتہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایڈز میں بنتا شوہر کی بیوی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شوہر کو مجامعت سے روک دے مگر اس بنیاد پر فتح نکاح کے حق کے بارے میں کونسل کا فیصلہ نہیں آیا۔

کونسل کے جملہ ادا کیں بشمل مفتی اعظم پاکستان مفتی رفع عثمانی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ (۱۷) قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ایڈز بوج مہلک و متعددی مرض ہونے کے قبل فتح ہے تو پھر تمام مہلک و متعددی امراض موجب فتح نکاح ہوں۔

البتہ اتنی بات قبل غور ہے کہ اکثر متعددی و مہلک امراض ابتدائی مرافق میں ہوں، تو قبل علاج ہوتے ہیں۔ کیمنساں کی واضح مثال ہے۔ لہذا ایڈز پر تمام مہلک متعددی امراض کو قیاس کر کے موجب فتح قرار دینا درست نہیں تا آنکہ مرض کی نوعیت اور اس کے قبل علاج ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے۔ البتہ دوران علاج متعددی مرض میں بنتا بیوی کا حق جماع ختم ہو جائے گا اور اگر مرد یا شوہر ہے تو بیوی اس کے قریب آنے اور جماع سے گریز کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ ناشرہ (نافرمان) شمارنہیں ہوگی۔ (۱۸) نیز یہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب عورت کو بوقت نکاح مرد کے مہلک مرض میں بنتا ہونے کے بارے میں علم تھا۔ اگر اسے یہ علم نہ ہو تو نکاح کے بعد اسے علی الاطلاق حق فتح حاصل ہو گا، اس لئے کہ ایسی صورت میں اسے مرد کے بارے میں صحیح معلومات فراہم نہ کرنا گویا دھوکہ شمار ہو گا۔



## حوالہ جات و حواشی

- (۱) ابن حزم، ابو محمد علی بن احمد، الحنفی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۳۰ھ، ۱۰/۱۱۲
- (۲) ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۳۸ھ، ۲/۱۳۹-۱۳۶
- (۳) الماوردي، الشافعی، علی بن حبیب الحاوی الکبیر، بیروت، دار الغرب، ۱۹۹۲ء، ۲/۳۲۸؛ ابن قدامة الحنفی، عبد اللہ بن احمد، المغنى، بیروت، دار حیاء التراث العربي، ۱۴۰۵ھ، ۷/۱۳۱
- (۴) ابن همام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، بیروت، دارالفکر، ۲/۳۱۲-۳۰۳
- (۵) شرح فتح القدیر، ۳۰۳-۳۰۲، الحاوی الکبیر، ۹، ۳۳۸، المغنى ۷/۱۴۰؛ قرآنی، احمد بن ادریس المالکی، الذخیرۃ، بیروت دار الغرب، ۵/۱۳۱۷، ۲۸۲/۳، ۲۱۹
- (۶) الحاوی الکبیر، ۹/۳۲۰
- (۷) علیش مالکی، محمد بن احمد، مختصر خلیل، بیروت، دارالفکر، ۹/۳، ۵/۱۴۰۹، ۳۸۱-۳۸۰
- (۸) ابن قیم، محمد بن ابی بکر، زاد المعاد فی حدی خیر العباد، بیروت، مکتبۃ المنار الاسلامیۃ، ۱۴۱۵، ۵/۱۸۲-۱۸۳
- (۹) الپسور، بو اسیر کا واحد ہے، المجموع الوسیط، دارالنشر، ۱/۵۶
- (۱۰) ”وقول الاطباء كل فرحة تزمن في البدن فهي ناصور (فيوي)، احمد بن محمد، المصباح المنير، بیروت، المکتبۃ العلمیۃ، ۲/۲۰۸
- (۱۱) المغنى، ۷/۱۳۱
- (۱۲) زیلیعی، عثمان بن علی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، بیروت، دارالکتب العلمیۃ، ۱۴۲۰ھ، ۳/۲۳۶
- (۱۳) کاسانی، ابو بکر بن مسعود، بدائع الصنائع، بیروت، دارالکتاب العربي، ۲/۱۹۸۲ء، ۲/۳۲۷
- (۱۴) مہلک اور متعدی امراض کے متعلق معلومات مندرجہ ذیل مصادر سے مأخذ ہیں:
- (i) جمال الدین بن عبد الرحمن، بدکاریوں کی تباہ کاریاں (مترجم) مولانا مشہود احمد، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، ۱۴۱۵ھ، ص ۱۳۶-۱۳۵

- (ii) معاذ حسن، جنسی تعلقات، اسلام اور جدید سائنس کی روشنی میں، لاہور، دارالکتاب، ۲۰۰۳ء، ص ۳۸۲-۳۸۰
- (۱۵) توجیہات الدوڑۃ الفقهیۃ الطبیۃ السادسة ”رویۃ اسلامیۃ للمشاکل الاجتماعیۃ لمرض الایذز، مجلۃ المجمع الفقہ الاسلامی، ج ۳، ص ۶۷
- (۱۶) آٹھویں فقہی سینیئار کا فیصلہ مشمولہ اہم فقہی فیصلہ، مرتب، مجاہد الاسلامی قاسمی، کراچی، ادارۃ القرآن، ۱۹۹۹ء، ص ۷۷-۸۷
- (۱۷) اسلامی نظریاتی کوسل کی رپورٹ، ۲۰۰۳-۲۰۰۲ء، طالع ناشر اسلام آباد، اسلامی نظریاتی کوسل، اگست ۲۰۰۳ء، ص ۲۲۷-۲۲۲
- (۱۸) اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے امراض کے متعدی ہونے کا اعتبار کیا ہے چنانچہ وہ روایات جن میں مجروم کی طرف ہنگامی باندھ کر دیکھنے کی ممانعت ہے نیز وہ روایات جن میں صحیح تدرست شخص کو مريض کے ساتھ اختلاط کی ممانعت ہے ان سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ باقی وہ احادیث جن میں امراض کے متعدی ہونے کی نفع کی گئی ہے تو وہ بقول نووی وابن حجر اس امر کی نفع ہے کہ مرض خود بخود متعدی نہیں ہوتا بلکہ خدائے کریم کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ نووی نے اس توجیہ کو جمہور علماء کی رائے قرار دیا ہے۔

”فهذا الذى ذكرناه من تصحيح علماء المحدثين والجمع بينهما هو الصواب“

الذى عليه جمهور العلماء ويعتبر المصير إليه“

نووی، یحیی بن شرف، شرح النووی علی صحیح مسلم، بیروت، دار الحیاء التراث العربي، ۱۴۹۲ھ/۲۰۰۲ء

ابن حجر، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۷۹ھ/۱۰۱۱ء